



سوال

کیا میت کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟

جواب

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفنانے کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس موقع پر خلوص نیت کے ساتھ میت کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر لکتے اور فرماتے:

اسْتَغْفِرُ وَاللَّيْلَةَ وَالنَّهَارَ بِالتَّيْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُنَالُ (سنن ابی داؤد، البجنائز: 3221)

اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو بیشک اب اس سے سوال کیا جائے گا۔

1. قبر پر کھڑے ہو کر میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے، تو آپ نے فوت شدگان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی (صحیح مسلم،

البجنائز: 974)

2. افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان دعا کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرے، لیکن اگر کسی اور جہت کی طرف منہ کر کے دعا کر لے تو جائز ہے۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معرکہ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ ایک ہزار تھے، اور آپ کے ساتھ تین سو انیس آدمی تھے، تو نبی ﷺ قبلہ رخ

ہوئے، پھر اپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے: "اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے میرے لیے پورا فرما۔ اے اللہ! تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا مجھے عطا

فرما۔ اے اللہ! اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگی۔" آپ قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے حتیٰ کہ

آپ ﷺ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ﷺ کے پاس آئے، چادر اٹھائی اور اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا، پھر پیچھے سے

آپ ﷺ کے ساتھ جمع گئے اور کہنے لگے: اللہ کے نبی اپنے رب سے آپ ﷺ کا مانگنا اور پکارنا کافی ہو گیا۔ وہ جلد ہی آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ عزوجل

نے یہ آیت نازل فرمائی: "جب تم لوگ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں ایک دوسرے کے پیچھے اترنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری

مدد کروں گا۔" پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی۔ (صحیح مسلم، الجہاد والسیر: 1763)

واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی



فضيلة الشيخ اسحاق زاهد

فضيلة الشيخ عبد الخالق حفظه الله

فضيلة الشيخ جاويد اقبال سيالكوٹی

فضيلة الشيخ عبد الحكيم بن محمد بلال